

- ۱۔ ہر سوال کے سامنے چار دائرے دیے گئے ہیں۔ صرف صحیح جواب والا دائرہ بھریں۔
 ۲۔ دائروں کو شیڈ (بھرنے) کے لیے نیلے یا کالے رنگ کا پن استعمال کریں۔
 ۳۔ جواب میں ایک سے زائد دائرے بھرنے سے جواب غلط تصور ہوگا۔

سیکشن (الف)

وقت: ۲۰ منٹ

- ۱۔ اونچی چھلانگ میں کراس بار کا وزن ہوتا ہے۔
 ○ دو کلوگرام ○ تین کلوگرام ○ چار کلوگرام ○ پانچ کلوگرام
 ۲۔ بیڈ منٹن میں شارٹ سروس ایریا کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟
 ○ دو میٹر ○ تین میٹر ○ چار میٹر ○ پانچ میٹر

۳۔ معیاری ٹریک _____ گلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

- چھ ○ سات ○ آٹھ ○ نو

۴۔ وٹامن _____ کی کمی سے رات کو کم نظر آتا ہے۔

- تیس ○ چالیس ○ پچاس ○ ساٹھ

۵۔ بیٹن کا وزن _____ گرام ہوتا ہے۔

- تیس ○ چالیس ○ پچاس ○ ساٹھ

۶۔ عضلات کی _____ اقسام ہیں۔

- دو ○ تین ○ چار ○ پانچ

۷۔ نیبل ٹینس کی لمبائی _____ فٹ ہوتی ہے۔

- چھ ○ سات ○ آٹھ ○ نو

۸۔ باسکٹ بال کورٹ کی لمبائی _____ میٹر ہوتی ہے۔

- پچیس ○ چھیس ○ ستائیس ○ اٹھائیس

۹۔ بڑی آنت کی لمبائی _____ فٹ ہوتی ہے۔

- تین ○ چار ○ پانچ ○ چھ

۱۰۔ غذا کے بنیادی اجزاء کتنے ہیں؟

- دو ○ چار ○ چھ ○ آٹھ

۱۱۔ خوراک _____ میں ہضم ہوتی ہے۔

- آنت ○ کلی ○ جگر ○ معدہ

۱۲۔ نیبل ٹینس نٹ کی اونچائی _____ انچ ہوتی ہے۔

- سات ○ چھ ○ پانچ ○ چار

۱۳۔ باسکٹ بال کھیل کا دورانیہ _____ منٹ ہوتا ہے۔

- 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70

۱۴۔ معیاری ٹریک کی لمبائی ہوتی ہے _____

- دو سو میٹر ○ تین سو میٹر ○ چار سو میٹر ○ آٹھ سو میٹر

۱۵۔ مشروبات _____ قسم کے ہوتے ہیں۔

- دو ○ تین ○ چار ○ پانچ

۱۶۔ ہاکی گراؤنڈ کی چوڑائی _____ میٹر ہوتی ہے۔

- پچاس ○ چھپن ○ ساٹھ ○ پینسٹھ

۱۷۔ ہاکی گراؤنڈ کی لمبائی _____ میٹر ہوتی ہے۔

- 91.4 ○ 92.5 ○ 93 ○ 95

۱۸۔ عورتوں کیلئے نیزے کا وزن _____ گرام ہوتا ہے۔

- دو سو ○ چار سو ○ چھ سو ○ آٹھ سو

۱۹۔ مردوں کیلئے نیزے کا وزن _____ گرام ہوتا ہے۔

- دو سو ○ چار سو ○ چھ سو ○ آٹھ سو